

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشُّوْرِ مِنَ الْقَوْلِ لَا

اللہ فضول میں کھول کر بدی بیان کرنے کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جو

مَنْ ظَلَمَ وَوَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۝ اِنْ تَبَدُّوا

ستایا گیا ہو اور اللہ سنے والا اور جاننے والا ہو اگر تم کسی نیکی کا

خَيْرًا اَوْ خَفْوَةً اَوْ تَعْفُوًا عَنْ سُوءِ فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ

انہار کر دے یا اسکو چھپاؤ گے یا کسی برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی بڑا درگزر

عَفُوًا قَدِيرًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَا

کرتوالا اور قدرت رکھنے والا جو بیشک جو لوگ اللہ اور اُس کے رسول کے منکر ہیں اور

يُرِيدُوْنَ اَنْ يُكْفِرُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ

یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ میں اور اُس کے رسولوں میں جدائی ڈالیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم

نُوْمِنُ مِنْ بَعْضٍ وَنُكْفِرُ مِنْ بَعْضٍ وَيُرِيدُوْنَ اَنْ يَخْزُوا

بعض پر ایمان لائے ہیں اور بعض کے منکر ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ (کفر و ایمان کے)

بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

میں ہیں ایک راستہ اختیار کر لیں وہی تو اصلی کافر ہیں

حَقًّا وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مَّهِينًا ۝

اور بنے کافروں کے لئے ذلت دینے والا عذاب تہیا کیا جو

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَا لَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ

اور جو اللہ اور اُس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں سے کسی میں کوئی

اَحَدٍ مِنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمُ اللّٰهُ اَجْرًا

تفریق نہ کی ان لوگوں کو ان کے اجر ضرور عنایت فرمائے گا

وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ

اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اہل کتاب تم سے یہ سوال کرتے ہیں

Handwritten marginal notes in Urdu on the left side of the page, providing commentary and explanations for the verses.

بعض پر ایمان لائے ہیں

۶۱

Handwritten marginal notes in Urdu at the bottom of the page, continuing the commentary.

سوال: کہ فرشتوں نے اس کو فرمایا کہ تم لوگو! اللہ نے تم کو اس کتاب سے نازل فرمایا ہے اور تم اسے پڑھو اور اس کی تعلیم لو۔
 جواب: کہ ہم اس کی تعلیم نہیں دے سکتے۔
 سوال: کہ تم لوگو! اللہ نے تم کو اس کتاب سے نازل فرمایا ہے اور تم اسے پڑھو اور اس کی تعلیم لو۔
 جواب: کہ ہم اس کی تعلیم نہیں دے سکتے۔

أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا

کہ تم انہیں آسمان سے کوئی کتاب نازل کرو تو سوئے ہوئے تو

مُوسَىٰ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً

انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا یعنی یہ کہا تھا کہ خدا کو ہمیں کھلم کھلا دکھا دو

فَأَخَذْتَهُمُ الصُّعُقَةَ يُظْلِمُهُمْ ثُمَّ أَخَذُوا

پس انکے اسی ظلم کے سبب سے انہیں بجلی گری تھی پھر بعد اگلے کہ ان پر

الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيْتُ فَعَفَوْنَا عَنْ

کئی نشانیاں آچکی تھیں پھر انہیں بخش دیا اور ان سے بھی

ذَلِكَ ۚ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا ۝ وَرَفَعْنَا

درگزر کی اور موسیٰ کو کھلا قلب غایت کیا اور ان سے

فَوْقَهُمُ السُّلُوكَ مِمَّا قَبْلَهُمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا

عہد لینے کے لئے کوہ طور کو انکے اوپر بلند کیا اور انہیں چننے پر کہا کہ اس دروازہ میں سے

الْبَابَ يُجِدُّوا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ ۚ

مجھ کرتے ہوئے داخل ہو اور ان سے یہ کہا کہ احکام سبت میں زیادتی نہ کرو

وَإِذَا نَقَضْتُمْ تَعَاهُكُمْ فَمَا لَكُمْ مِنْكُمْ ۚ فَمَا نَقِضْتُمْ

اور ہم نے ان سے سخت عہد لیا تھا پھر انکے اپنے اس عہد کے

مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ فَسَدَّ اللَّهُ أَبْوَابَهُمْ

توڑ دینے کے سبب اور آیات خدا کا انکار کرنے کے باعث سے اور انہیں کو ناحق قتل کرنے کی

بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَعِبَ اللَّهُ

دہ سے اور انکے اس قول کی جہت سے کہ ہمارے دل غیر ظاہر ہے ہوئے ہیں (یعنی جو سنا تھا کیا) بلکہ اللہ

عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

انکے دل پر انکے کفر کے سبب چھاپ لگا دیا پس وہ ایمان نہ لائیں گے مگر بہت کم

یہاں تک کہ ان کے دل پر غلاف پڑ گیا اور وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو نہایت جھوٹا سمجھا اور ان کے دل پر غلاف پڑ گیا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے دل پر غلاف پڑ گیا اور وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو نہایت جھوٹا سمجھا اور ان کے دل پر غلاف پڑ گیا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے دل پر غلاف پڑ گیا اور وہ ایمان نہ لائیں گے۔

اس آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو نہایت جھوٹا سمجھا اور ان کے دل پر غلاف پڑ گیا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے دل پر غلاف پڑ گیا اور وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو نہایت جھوٹا سمجھا اور ان کے دل پر غلاف پڑ گیا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے دل پر غلاف پڑ گیا اور وہ ایمان نہ لائیں گے۔

وَيَكْفُرَهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا

نیز ان کے کفر کے باعث اور ان کے اس قول کے باعث جس سے مریم پر انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

اور اس قول کے سبب کہ جیسے سچ ابن مریم خدا کے رسول کو قتل کر دیا

رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ

(ان کے دلوں پر جھاپہ لگا دیا) حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ صلیب دی بلکہ ان (یہودیوں) کے

لَهُمْ طُورَاتٍ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ

نے ایک شخص انکی شبیہ بنا دیا گیا تھا اور جن لوگوں نے سچ کے بارہ میں اس وقت اختلاف کیا تھا وہ

مَالِهِمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وَمَا قَتَلُوهُ

آج تک ان کے بارے میں شک ہی میں ہیں سوا گمان کی پیروی کے اس بارہ میں انکو کوئی علم نہیں ہے حالانکہ سچ کو

يَقِينًا ۚ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

انہوں نے بالیقین قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انکو اپنے پاس اٹھالیا اور اہم زبردست حجت والا

حَكِيمًا ۝ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ

پہ اور اہل کتاب میں سے کوئی نہ بچے گا مگر یہ کہ اسکو اپنے

قَبْلَ مَوْتِهِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝

مرنے سے پہلے سچ پر فرور ایمان لانا پڑے گا اور سچ قیامت کے دن ان کے برخلاف گواہی دین کے

فَظَلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَحَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتِ

پس یہودیوں کے ظلم کے باعث جنہ انہر بہت سی پاک چیزیں جو ان کے لئے حلال تھیں

أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۝

حرام کر دیں نیز راہ خدا سے انہر لوگوں کو روکنے کے باعث

وَآخِذْهُمْ بِالرُّبُوبِ وَقَدْ نَهَوْنَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ

اور انکی سو ذمہ داری کے باعث جس سے انکو یقیناً عافیت کی گئی تھی اور لوگوں کے لئے نافرمانی کا پتہ

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text, providing commentary and explanations.

مَوْسَىٰ تَكَلَّمَ ۖ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِشَلَا

جو حق کلام کرنے کا تھا (ایچھے) رسول (جو) خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے (جس) تاکہ

يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ

آپ کے لیے بعد ازاں ہر آدمی کوئی حجت ماقی نہ رہے اور اللہ

عَزِيزًا حَكِيمًا ۚ لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ

زبردست حکمت والا ہے لیکن اللہ کے پاس ہے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اور وہ

أَنْزَلَهُ يُعَلِّمُهُ ۚ وَالْمَلَكُ شَهِدُ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

کاشانی علم سے نازل کیا ہے اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں حالانکہ گواہی اللہ ہی

شَهِيدًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

کی گمانی ہے بیچک جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے راہ خدا سے روکا

قَدْ ضَلُّوا ضَلًّا بَعِيدًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَوْظَلُّوا

وہ گمراہی میں بہت بڑھ گئے جن لوگوں نے یقیناً کفر (جس) کیا اور ظلم (جس) کیا

لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۚ

اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ انکو بخشدے یا انکو کوئی اور راستہ سواسے

الْأَطْرَاقِ ۚ بِهِمْ خُلَدٌ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ

جنہم کے راستے کے بتلانے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ

ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۚ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ

کے لئے یہ بات آسان ہے اور آدمیوں یقیناً رسول تمہارے

الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَامِنُوا ۚ خَيْرَ الْكُفْرَانِ

رب کی طرف سے تمہارے پاس حق لیکر آیا ہے پس اسے مان لو تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر

تَكْفُرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ

انکار کرنے والے تو آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے حضور اللہ کا ہے اور اللہ

نہایت زیادہ اور وہ اس کے لئے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں حالانکہ گواہی اللہ ہی کاشانی علم سے نازل کیا ہے اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں حالانکہ گواہی اللہ ہی کی گمانی ہے بیچک جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے راہ خدا سے روکا وہ گمراہی میں بہت بڑھ گئے جن لوگوں نے یقیناً کفر (جس) کیا اور ظلم (جس) کیا اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ انکو بخشدے یا انکو کوئی اور راستہ سواسے جنہم کے راستے کے بتلانے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کے لئے یہ بات آسان ہے اور آدمیوں یقیناً رسول تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق لیکر آیا ہے پس اسے مان لو تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر تکفروا (جس) انکار کرنے والے تو آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے حضور اللہ کا ہے اور اللہ

اللہ کے لئے یہ بات آسان ہے اور آدمیوں یقیناً رسول تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق لیکر آیا ہے پس اسے مان لو تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر تکفروا (جس) انکار کرنے والے تو آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے حضور اللہ کا ہے اور اللہ

الْمَاءِ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

اور اللہ کے سوا وہ کسی کو اپنا پارو مددگار نہ پائیں گے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا

او آدمیو بیشک تمہارے رب کے پاس تیرے دلیل آچکی ہے اور آنے تمہ

الْحِكْمَ نُورًا مَبِينًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا

دکھلا دیے والا نور نازل کیا ہے پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس نور پر چسک

بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ وَيَهْدِيَهُمْ

ہوے انکو مقرب اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور اپنی صوری کا

الْيُسْطَرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۚ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ

سیدھا راستہ بتا دے گا لوگ تم سے فتوے دریافت کرتے ہیں تم کہو کہ اللہ

يُعْتَبِرْكُمْ فِي الْكَلَّةِ طَرِيقَ إِمْرٍ وَأَهْلِكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

مکو کلام کے بارے میں فتوے دیتا ہے کہ اگر کوئی مرد ایسا مرنے کہ جس کے اولاد (بامان باپ) نہ ہو

وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا

اور اسکی ایک بہن ہو تو اس بہن کو اس کے ترکہ کا نصف ملیگا اور اس طرح وہ مرد اس بہن کا وارث ہے

إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا

اگر اس کے اولاد (بامان باپ) نہ ہو اور اگر بہنیں دو ہوں تو ان دونوں کو

الْثُلَاثِينَ مِمَّا تَرَكَ تَوَّانٍ لِيَا ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَ

اس کے ترکہ کا دو تہائی ملیگا اور اگر بہائی بہن مرد و عورت (مٹے بچے) ہوں

نِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ بَيْنَ اللَّهِ

نر مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملیگا اللہ تمہارے لئے

لَكُمْ أَنْ تَصَلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

اس وجہ سے کہ لوگ بیان کرتا ہے کہ تم نہ بھٹکو اور اللہ ہر شے سے آگاہ ہے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'یہ آیت میں...' and 'اللہ تعالیٰ...'

Handwritten notes on the left side, including a large 'مختصر' (Summary) heading.

Handwritten note: 'تو ہر مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملیگا اللہ تمہارے لئے'

Handwritten note: 'اس وجہ سے کہ لوگ بیان کرتا ہے کہ تم نہ بھٹکو اور اللہ ہر شے سے آگاہ ہے'

Handwritten notes at the bottom of the page, including a large 'مختصر' (Summary) heading.

سورة المائدة من تأوی ما وعشرون آیتا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ خدا کے نام سے (شرع کرتا ہوں)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ اِحْتِ

اى ایمان لانے والو عہد پورے کرو جزدے

لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اَلَمْ يَتْلُ عَلَيْكُمْ خَيْرَ

تمہارے حلال کئے گئے ہیں سو آگے بنی مانت مگو پڑھ کر سنانی جائیگی جبکہ

مَحَلِّ الصَّيْدِ اَنْتُمْ حُرْمٰنٌ اَللّٰهُ يَحْكُمُ مَا

جہاں آہرام شکار کے حلال نہ جاننے والے ہو بیشک اللہ جو چاہتا ہو حکم

يُرِيْدُ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعْبًا

دیتا ہو اى ایمان لانوالو خدا کی نشانیوں کی بے توقیری نہ کرو

اَللّٰهُمَّ اِحْرَامَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْاَعْرَابِ

اور نہ حرمت والے مہینے کی اور نہ نذر کردہ قربانی کی اور نہ پشوار قربانی کی

وَالْاَمِّينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا

اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کے فضل اور اسکی خوشنودی کو خواہتا ہوں

مَنْ رَزَقَهُمْ وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا

مکان کو جاتے ہوں اور جب تم مجل ہو جاؤ تو شکار کیسو

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ

اور کسی قوم کی عداوت اس بنا پر کہ انہوں نے تمکو مسجد حرام سے

عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَمَتَعَاوَدُوْا

رو کا تھا تمہارے لئے اس امر کا باعث نہو کہ تم زیادتی کر گزرو اور نہ

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ خدا کے نام سے (شرع کرتا ہوں)



بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ خدا کے نام سے (شرع کرتا ہوں)

المائدة

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ خدا کے نام سے (شرع کرتا ہوں)

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ خدا کے نام سے (شرع کرتا ہوں)

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

اور پر ہنگامی میں ایک دوسری مدد کرنا اور گناہ اور زیادتی میں

وَالْعُدْوَانِ وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

ایک دوسری مدد نہ کرنا اور اللہ سے ڈرنا بیشک اللہ سخت عذاب

العقاب ۞ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اللَّحْمُ وَالدَّمُ وَرُءُوسُ

دھنڈا والا ہوا تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور سورا

الْخَيْزُرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالتَّنَحُّقَةُ

کا گوشت اور وہ جانور جسے خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور جو گردن ہونے

وَالْمَوْقُذَةُ وَالْمَكْرَدِيَّةُ وَالتَّيْمِيَّةُ وَمَا أَكَلَ

مارا گیا ہو اور جسے باؤن یا نہر میں پھینکا گیا ہو اور جو تھن سے گر کر مارا گیا ہو اور جسے کھانے

السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِرْتُمْ بِهِ وَمَا ذُهِبَ عَلَى النَّصَبِ

جسکو نترن چھاڑا ہو سوا ایک جاننے تک لیا گیا ہو اور جو تھان پر ذبح کیا گیا ہو

وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ لَكُمْ فَسِقَاطٌ

اور یہ کہ تیروں پر تقسیم کرنا یہ بگاری ہو

الْيَوْمِ يَكْفُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا

آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں تم

تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ

انہیں نہ ڈرو اور مجھے ڈرو آج میں تمہارا دین تمہارے لئے کمال

دِينِكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ

کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور دین اسلام کو

لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ

تمہارے لئے پسند کر لیا پس جو شخص بھوک کے جب مضطر ہو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

غَدْرٌ مِّثْلَ نَفْسٍ لَا تُرْفَأُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ سَأَلُوا نَبِيَّكَ

نہ گناہ کی طرف تامل ہو کہ تو بیشک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لوگ تم سے دریافت کرتے ہیں

مَاذَا أَحِلُّ لَهُمْ وَقُلْ أَحِلُّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمُوهَا

کہ اُنکے لئے کیا کیا حلال کیا گیا ہے تم کہہ دو کہ تمہارے لئے کل پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں اور شکاری چھوڑ دو

مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ يَعْلَمُونَ نَهْنٍ وَمَا عَلَّمْتُمُوهَا

شکاری جانور اس قاعدہ سے سدھایا ہو جیسا کہ اللہ نے تمکو بتادیا ہے

فَكُلُوا مِمَّا امْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

پس وہ جو کچھ تمہارے لئے پکڑ رکھیں انہیں سے (قسم حلال کو) کھاؤ اور اللہ کا نام اسپر لے کر

عَلَيْهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ طَرَفَ اللَّهِ سَرِيعَ الْحِسَابِ ۝

اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے

الْيَوْمَ أَحِلُّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا

آج کے دن حلال کی گئیں پھر کل پاک چیزیں اور ان لوگوں کی خوراک جو

الْكِتَابِ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

کتاب دی گئی ہے تمہارے لئے حلال ہے اور تمہاری خوراک اُنکے لئے حلال ہے اور اللہ کا شکر ہے

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ

اور ان لوگوں کی یا کہ اس عورتوں جو تمہیں پہلے کتاب دی گئی تھی اور انہیں

مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مَحْصُونًا

جو حق کر تم اُنکے ہر دیدہ در آٹھ لیک اُنکے نکاح کرنا منظور

غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ

بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ زَوْهَقًا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

تو اُنکے اعمال سب اکارت ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں ڈٹا اٹھتا ہوا ہے

لا یجوز ۱۶۰ الساتھ

نہ گناہ کی طرف تامل ہو کہ تو بیشک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لوگ تم سے دریافت کرتے ہیں

کے دن حلال کی گئیں پھر کل پاک چیزیں اور ان لوگوں کی خوراک جو

کتاب دی گئی ہے تمہارے لئے حلال ہے اور تمہاری خوراک اُنکے لئے حلال ہے اور اللہ کا شکر ہے

اور ان لوگوں کی یا کہ اس عورتوں جو تمہیں پہلے کتاب دی گئی تھی اور انہیں

جو حق کر تم اُنکے ہر دیدہ در آٹھ لیک اُنکے نکاح کرنا منظور

تو اُنکے اعمال سب اکارت ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں ڈٹا اٹھتا ہوا ہے

لا یجوز ۱۶۰ الساتھ

نہ گناہ کی طرف تامل ہو کہ تو بیشک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لوگ تم سے دریافت کرتے ہیں

کے دن حلال کی گئیں پھر کل پاک چیزیں اور ان لوگوں کی خوراک جو

کتاب دی گئی ہے تمہارے لئے حلال ہے اور تمہاری خوراک اُنکے لئے حلال ہے اور اللہ کا شکر ہے

اور ان لوگوں کی یا کہ اس عورتوں جو تمہیں پہلے کتاب دی گئی تھی اور انہیں

جو حق کر تم اُنکے ہر دیدہ در آٹھ لیک اُنکے نکاح کرنا منظور

تو اُنکے اعمال سب اکارت ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں ڈٹا اٹھتا ہوا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا

الأيمن لانيه الوجب تم نماز کے لئے آبادہ ہو۔ تو اپنے منہ

ووجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسكوا برؤسكم

دھو ڈالو اور اپنے ہاتھ کنبیوں سمیت اور اپنے سروں کے بعض حصہ کا

وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

اور ٹخنوں تک پاؤں کا مسح کرو اور اگر تم جنب ہو تو غسل کرو اور

وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم

لاہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی

من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء

پت اگلا سے آئے یا عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر پانی نہ پاؤ

فتيمموا صعيدا طيبا فامسكوا بوجوهكم وأيديكم

تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اس سے اپنے منہ اور ہاتھوں کے بعض حصہ کا

منه ما يريده الله ليجعل عليكم من حرج ولكن

کرو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تکلیف کرے بلکہ وہ

ليذليطحكم وليبئتم نعمته عليكم لعلكم

پہلے چاہتا ہو کہ تم کو پاک کرے اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کرے تاکہ تم

تذكروا ○ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي

شکر گزار ہو جاؤ اور اللہ کی نعمت کا جو تم پر ہوئی ذکر کرنے رہو اور اس کے اس عہد کا جو

وأنفقتموه إذ قلتم سمعنا وأطعنا وأتقوا الله إن الله

اپنے تم سے کیا کر لیا ہو تم کو کہنے یہ کہا تھا کہ تم جھٹنا اور نافرمانی کی اور اللہ سے ڈرنے رہو جبکہ اللہ

علم بذات القلوب وإن آمنوا كوثوا

دلوں کی باتوں سے واقف ہو اور ایمان لانے والو خدا کے لئے

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the Basmala and other religious text.

Vertical handwritten marginal notes on the left side of the page, providing commentary on the main text.

Large handwritten marginal notes on the left side, possibly a separate section or a detailed explanation.

Vertical handwritten marginal notes on the right side of the page.

Handwritten notes at the bottom of the page, including a signature and date.

Handwritten notes at the top of the page, including the word 'لا يحبه' (Lā yuhibhu) and other illegible text.

قَوْمًا مِّنْ دُونِهِمْ يَلْمُونَكَ لِيَأْخُذُوا بِكَ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الْمُؤْمِنِينَ

انسان کے ساتھ گواہ بننے کے لئے آمادہ ہو جاؤ اور کسی قوم کی سخت عداوت نہ کرو

قَوْمٍ عَلَىٰ الْأَعْدَاءِ أَعْدِلُوا قَدِ احْتَدَىٰ عَلَىٰ عُنُقِهِمُ الْمَوْتُ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الْمُؤْمِنِينَ

اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انسان نہ کرو انسان کرو کہ وہ پر بیخاری سے تہمت

وَأَتَّقُوا اللَّهَ طَرِيقَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۚ وَعَدَّ اللَّهُ

اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو غیر دار ہے اللہ نے اُنہیں جو

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ

ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے کہ اُنکے لئے بخشش ہے اور بہت بڑا

عَظِيمٌ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ

اجر اور جو لوگ منکر ہو گئے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا جنہی

أَصْحَابُ الْحَكِيمِ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

دی ہیں ای ایمان لائے والو تم جو اللہ کی نعمت پر اسکو یاد کرو

عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ لَّا يَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَلَقَّ

کہ جہنم ایک قوم نے تمہرے دست درازی کا ارادہ کیا تو اُنہیں تم سے اُنکے ہاتھوں کو

أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

روک دیا اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ مومنوں کو لازم ہے کہ اللہ ہی

الْمُؤْمِنُونَ ۚ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

پر بھروسہ کریں بیشک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا

وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ

اور انہیں سے بھی بارہ سردار بھیجے اور (پھر) اللہ نے فرمایا کہ بیشک میں تمہارے ساتھ ہوں

لَئِنِ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ

اگر تم نماز پڑھو گے اور زکوٰۃ دو گے اور میرے

Handwritten notes at the bottom of the page, including the word 'لا يحبه' (Lā yuhibhu) and other illegible text.

Extensive vertical handwritten notes on the right margin, including the word 'لا يحبه' (Lā yuhibhu) and other illegible text.



يُرْسَلِي وَعَزَّرْتَهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا

رسولین پر ایمان لاؤ گے اور انکی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے

لَا كُفْرَانَ عَنْكُمْ فِي آيَاتِكُمْ وَلَا دَخَلْتُمْ جَنَّتِ تَجْرِي

تو ضرور میں تمہاری برائیاں جسے دور کر دوں گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ

جگے نیچے نہریں بہتی ہیں داخل کر دوں گا پس اسکے بعد جو تم میں سے منکر ہوگا وہ ضرور

ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ فِيمَا نَقُضُوا مِيثَاقَهُمْ

سیدے راستے سے بھٹک جائیگا پس جو وہ اپنے عہد توڑ دینے کے

لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ

ہنے انہر لعنت کی اور انکے دلوں کو سخت کر دیا وہ لفظوں کو انکے

عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ

تو قیون سے بدل دیتے ہیں اور جن چیزوں کی انکو نصیحت کی گئی تھی اسکا ایک بڑا حصہ بھول گئے اور جو انہیں سے خیانت کر پڑے

تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ

ہیں اور وہ بہت ہی شور مسم میں (جو ظاہر نہیں ہیں) انکے حال پر تلو برابر اطلاع ہوتی رہے گی پس تم انکو ممان

عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَمَنْ

کردو اور درگزر کرو بیشک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَضْرِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا

لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم نضاری ہیں ہم نے انکا عہد لیا پھر جو کچھ انکو یاد دلایا گیا تھا

حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ مِمَّا غَرَّبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ

اسکا ایک بڑا حصہ بھول گئے پھر ہم نے قیامت تک کے لئے انکے مابین عداوت

وَالْبُغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ

اور بغض ڈالا اور آگے چل کر اللہ انکو اجلائیگا

تجزیہ

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ

کہ وہ کیا کرتے تھے ای اہل کتاب بیشک ہمارا رسول تمہارے

رَسُولُنَا يَبِينُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ

پاس آیا کتاب کے اُس حصہ میں سے جسے تم چھپایا کرتے تھے بہت کچھ ظاہر کر دیتا ہے

وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ

اور بہت سے سے درگزر کرتا ہے بیشک تمہارے پاس خدا کی طرف سے نور اور روشن کتاب

مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ

آگہی جسکے ذریعہ سے خدا اُن لوگوں کو جو اُسکی خوشنودی کے خواستگار ہیں سلامتی کی آہن

السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ

دکھلا دیتا ہے اور اُنکو تاریکی کفر سے اپنے حکم کے نور کی طرف نکال لائے گا اور اُنکو

يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ

صراط مستقیم تک پہنچا دیتا ہے وہ لوگ یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے

قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ

یہ کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے تم یہ کہو کہ خدا کو

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

روک کون سکتا ہے اگر وہ یہ ارادہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو اور آگہی

وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

والدہ کو اور زمین میں جو وہیں سب کو ہلاک کر دے حالانکہ آسمانوں کا

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى

اور زمین کا اور جو کچھ چاہے یا نہیں اسکا اختیار خدا ہی کو ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور اللہ

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ

ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور یہود و نصاری نے یہ کہا کہ ہم

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses. The text is dense and covers the entire right margin of the page.

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the verses. The text is dense and covers the entire bottom margin of the page.

اَبْنُو اللّٰهِ وَاَجْبَاؤُهُ ط قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ ط

اللہ کے بیٹے اور آپ کے دوست دار ہیں تم یہ کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کے سبب تم کو عذاب کیوں دیتا ہے

بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ

بلکہ تم تو اسکی مخلوق میں سے انسان ہو جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے

مَنْ يَشَاءُ مَوْلٰىهُ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا

عذاب دیتا ہے کل آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اُنکے مابین ہے اسکا اختیار

بَيْنَهُمَا ذُو الْاَيْمَنِ الْمَبْصُورِ ۝ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ

خدا ہی کو ہے اور باز گشت اسکی حضور میں ہوگی ای اہل کتاب بیشک

جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يَبِيْنُ لَكُمْ عَلٰى الْفِتْرَةِ مِّنْ رَّسُوْلٍ

ہمارا رسول (جو ہمارے احکام) کو لکھتا ہے بیان کرتا ہے تمہارے پاس ایسے وقت آیا جبکہ رسولوں کی آمد کی ہوتی تھی

اَنْ تَقُوْلُوْا اَمَّا جَآءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ

کہہ لیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانیو والا آیا ہی نہیں میں تمہارے پاس

جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

خوشخبری دینے والا اور ڈرانیو والا آچکا اور اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے

وَ اِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ يَقُوْمُوْا ذِكْرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ

اور جبوقت موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ای میری قوم اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے

عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلْ فِيْكُمْ اَنْبِيَاۗءَ وَجَعَلَكُمْ مَّوَدَّوٓءًا

یاد کرو کہ جب تم میں انبیاء مقرر فرمائے اور تمکو بادشاہ بنایا اور تمکو

اَنْتُمْ مَّا لَمْ يُوْتِ اَحَدًا مِّنْ الْعٰلَمِيْنَ ۝ يَقُوْمُوْا

وہ کچھ دیا جو تمام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا تھا ای میری قوم

اَدْخُلُوْا الْاَرْضَ الْمَقْدَسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

تم اس زمین مقدس میں داخل ہو جاؤ جسکو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'اور پھر اسے بائیں میں بتا دیا' and 'اور اسے بائیں میں بتا دیا'.

Handwritten marginal note: 'میں نے'

Handwritten marginal note: 'میں نے'

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, including 'میں نے' and 'میں نے'.

وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خِسِرِينَ ۝ قَالُوا

اور پیچھے کی طرف نہ پلٹو ورنہ خسارہ اٹھائو واللہ میں ہو جاؤ گے انھوں نے کہا کہ

يُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمٌ لَّجَبَّارِينَ ۚ وَإِنَّا لَنَنظُرُهَا

اور موسیٰ اس میں تو ایک قوم بڑے زبردست لوگوں کی ہو اور جب تک وہ

حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا ۚ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۝

اُس میں سے نہ نکل جائیں ہم تو اُس میں جاؤ گے نہیں پھر اگر نہ اُس میں نکل جائیں تو ہم اُس میں داخل ہو جائیں گے

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخْفَوْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا

اُن لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے دو شخصوں نے جو خدا نے نعمت عطا فرمائی تھی یہ کہا کہ اُن کے

ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَانْكُرُوا

دروازوں میں گھس پڑو کہ اگر تم اُس میں گھس پڑو گے تو تم ہی

غَلْبُونَ ۗ وَعَلَىٰ اللهُ فِتْوَاكُمْ لَئِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

غالب آ جاؤ گے اور اگر تم سچے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو

قَالُوا يَمُوسَىٰ إِنَّ لَنَا لَنَدًّا خُلْنَا بِهَا اَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا

انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ جب تک وہ اُس میں موجود ہیں ہم تو ہرگز ہرگز نہ جائیں گے

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّاهُمَا قَاعِدُونَ ۝

اب تم اور تمہارا پروردگار جاؤ اور دونوں لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں

قَالَ رَبِّ اِنِّي لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِي وَاِخِي فَاَفِرُّ

(موسیٰ نے) عرض کی کہ اے میرے پروردگار میں صرف اپنی ذات کا اختیار رکھتا ہوں اور اپنے بھائی کا نہیں

بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝ قَالَ فَاِنْتَا فَحْرَمَةٌ

ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جہائی کر دے (خدا نے) فرمایا کہ زمین اُن پر

عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيهُونَ فِي الْاَرْضِ ط

چالیس برس کے لئے حرام کر دی گئی (اب) وہ اسی زمین میں سرگردان پھریں گے

صفین

سُورَةُ

تَلَا فِيهَا مِنْ الَّذِينَ يَخْفَوْنَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ لَّجَبَّارِينَ وَمِنْهَا مِمَّنْ عَقَّبَهُمُ اللَّهُ فِي يَوْمِ الْبُرُوجِ ۚ وَقَدْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ يَوْمَ الْيَوْمِ اِلَىٰ اَعْيُنِهِمْ فَسَوْفَ يُعْطَوْنَ اَلَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ

فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ

پس ناگزیران لوگوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو اور انکو آدم کے دونوں

نبی ابی آدم رباحی مراد قر باقر بانا فتقبل من

نبوت کی دانشی خبر پر مگر سنا دو جو بت کہ ان دونوں نے قرانی پیش کی تو ان دونوں میں

احدھا ولم یقبل من الآخر قال لاقتلتک

ایک کی تو قبول ہو گئی اور دوسری قبول نہ ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا

قال انما یتقبل الله من المتقین ۝ لکن بسطت

اس نے کہا کہ اللہ تو پر ہیرگاروں کی (نذر) قبول کرتا ہے اگر تو اپنے ہاتھ میری طرف اسی نیت سے

الی یدک لتقتلنی ما انا بسط یدی الیک لاقتک

بڑھائیگا کہ مجھے قتل کر دے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف اسی نیت سے بڑھائیوں الا نہیں ہوں

لانی اخاف الله رب العلمین ۝ انی ارید ان

مجھے قتل کروں کیونکہ میں توکل عالموں کے پروردگار خدا سے ڈرتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ

تبعوا اياتی وراحمک فتکون من اصحاب النار

تو میرا اور اپنا (دونوں کا) گناہ سمیٹ لیجائے اور جہنمی ہو جائے

وذلك جزؤ الظالمین ۝ فطوعت له نفسه

کہ ظالموں کا بدلہ ہی ہو پھر اگلے نفس نے اسے اگلے

قتل اخیه فقتله فاصبر من الخسرین ۝ فبعث الله

بھائی کے قتل پر آمادہ کیا اور اسے قتل کر دیا پھر وہ نقصان اٹھائیوں میں ہو گیا پھر اس نے ایک

عرا بایتحث فی الارض لیریه کیف یوارى

کو آہیجا کہ وہ زمین کو پھرتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی حالت پر

سواء اخیه قال یویلتی اعجزت ان اکون

(دراں) کو کیونکر چھپائے تو وہ کہنے لگا ہاے خرابی میری کیا میں اس سے (بھی) عاجز ہوں کہ

دفعہ

منکر

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text.

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the number 148 in a circle.

المائدة

١٤٨

لا يجب

مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوَاةَ أَخِي فَأَصْبِرْ

اس کوڑے کی مانند ہو جاؤں اور اپنے بھائی کی حالت بد (لاش) کو چھو ہوں غرض کہ وہ

مِنَ التَّمِيمِ ۝ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ

نادم ہوا اسی سبب سے مجھے بنی اسرائیل پر

بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ

لازم کر دیا کہ جو شخص کسی نفس کو بغیر دوسرے نفس کے قتل کرے یا

فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ

بغیر زمین میں فساد کے قتل کر ڈالے پس ایسا ہو گیا اسے کل آدمیوں کو قتل کر ڈالا اور جنے

أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ

لیکھنا کو زندہ کر دیا تو گویا اسے کل آدمیوں کو زندہ کیا اور یقیناً

جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ

ہمارے رسول آئے اس کی کھلی دلیلیں لیکر آئے پھر اُن کے بعد انہیں سے بہت سے

بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝ إِنَّمَا جَزَاءُ

زمین میں زیادتیان کرنے کے سوا اُن کے کیا جزا ہو

الَّذِينَ يَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ

اُن لوگوں کی جو اللہ اور اُس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں

فَسَادًا أَن يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

کہ وہ قتل کر دئے جائیں یا سولی دیرتے جائیں یا اُن کے ہاتھ اور پاؤں

وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۗ

ایک دوسرے کے خلف کاٹ دئے جائیں یا وہ اپنے ملک سے جلا وطن کر دئے جائیں

ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

یہ تو اُنکی دنیا کی رسوائی ہے اور آخرت میں اُن کے لئے

مع عند المائتین ۱۱

Extensive handwritten marginal notes on the right side of the page, including the word 'لبن' written vertically.

Handwritten notes at the bottom of the page.

عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ

بنت بڑا عذاب ہے سوائے اُنکے جو توبہ کریں قبل اُنکے کہ

تَقْدِرُ وَاَعْلِيْهِمْ ۝ فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَفُوْدٌ رَّحِيْمٌ ۝

تم ان پر قابو پاؤ۔ پس تم یہ جان لو کہ اللہ بہت بڑا بخشنے والا (اور) نرم کرنا والا ہے

بِآيَاتِهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثَقُوْا لِلّٰهِ وَابْتَغُوا الْوَسِيْلَةَ

ای ایمان لائے والو اللہ سے ڈرو اور اُنکے حضور میں متوجہ

الرَّوْسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ۝

وسیلہ ہم پہنچاؤ اور اُسکی راہ میں مجاہدہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَ اِنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ

بیشک جو کافر ہو چکے ہیں اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اُنکا ہی ہے

جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ

اور اُنکا ہی اور اُنکے ساتھ ہے اور عذاب روز قیامت سے بچنے کے لئے وہ اس سے

الْقِيٰمَةِ مَا ثَقِيْلٌ مِنْهُمْ ۝ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

فدیہ دینا چاہیں تو یہ اُنکا قبول نہ کیا جائیگا اور اُنکے لئے دردناک عذاب ہو گا

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ

وہ ارادہ کرتے ہیں کہ آگ سے نکل جائیں مگر حالانکہ وہ اُس سے نکل نہ سکیں گے

مِنْهَا ۝ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

اور اُنکا عذاب پائیدار ہو گا جو مرد اور عورت

فَاَقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمْ مَّا جَزَا ۝ وَمَا كَسَبَتْ اِلَّا مِنْ اَللّٰهِ

دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ یہ اُنکے لئے ہے کہ خدا کی طرف سے بطور عاقبت نرہا ہے

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ

اور اللہ زبردست (اور) حکمت والا ہے پھر جو شخص اپنی زیادتی کے بعد توبہ کرے

Handwritten notes at the top of the page, including phrases like 'بنت بڑا عذاب ہے' and 'پس تم یہ جان لو کہ اللہ بہت بڑا بخشنے والا ہے'.

Vertical handwritten notes on the left margin, providing commentary on the verses.

Handwritten note 'ہج' written vertically.

Handwritten note 'جمع' written vertically.

Handwritten notes at the bottom of the page, including phrases like 'اور اللہ زبردست (اور) حکمت والا ہے'.

وَاصْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اور اصلاح کرے تو بیشک اللہ اسکو توبہ قبول کرے گا یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا

رَحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

(اور) مہربان ہی کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں کا اور زمین کا اختیار

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزَنكَ

اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور رسول یہ بات تمکو رنج میں نہ ڈالے

الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا

کہ لوگ کفر کے اظہار میں مبادرت کرتے ہیں بعض تو ان میں سے ایسے ہیں کہ وہ

يَأْفُوهُمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ

مذمت سے گزرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کے دل ایمان نہیں لائے اور بعض یہودیوں میں

هَادُوا وَسَمِعُونَ لِلْكَذِبِ سَمْعًا وَمَنْ لِي بِنَارِ

سے جھوٹ کے بڑے سنے والے ہیں سنے والے بھی دوسرے کے واسطے

أَنْتُمْ يَا تَوَكُّلٌ يُخْرِقُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ

جو تمہارے پاس تک نہیں آتے (جو) نفلوں کو ان کے موقعوں سے ہٹاتے ہیں

يَقُولُونَ لَنْ أُوْتِيَ هَذَا فَخْزُوهَا وَإِنْ لَمْ تُوْتَوْا

اور کہتے ہیں کہ اگر تم سے یہ کہا جائے تو ماننا اور اگر یہ نہ کہا جائے تو

فَاخْذُرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ

بچنا ہن مہلکی آزمائش خدا ہے تو تم ہرگز خدا کے بیان آنے کے بارے میں

مَنْ اللَّهُ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ

کامیاب نہ بنائے یہی وہ لوگ ہیں جنکو اللہ نے

کامیاب نہ بنائے یہی وہ لوگ ہیں جنکو اللہ نے

بنو تمسیر اور بنو زکریہ کا قصہ ہے ہم تم میں انشا اللہ دیکھ کریں گے

بنو تمسیر اور بنو زکریہ کا قصہ ہے ہم تم میں انشا اللہ دیکھ کریں گے

عبدالمتقدیم

سئل

يُطَهِّرُ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي

پاک کرنا نہیں چاہا دنیا میں آنکے لئے رسوائی ہے اور آخرت میں

الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ

آنکے لئے بہت بڑا عذاب ہے جھوٹ کے بڑے سنے والے

أَكَلُونَ لِللَّسِيطِ ۖ وَإِن جَاء وَكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمَا

حرام کے بڑے کھانے والے اگر تمہارے پاس آئیں تو انکے مابین فیصلہ کرو یا

أَعْرَضَ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوكَ

آنے سے کٹھ پھیر لو اور اگر تم ان سے روگردانی کرو گے تو وہ ہرگز تمہارا کچھ

شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ

بجھڑائیں گے اور اگر فیصلہ کرو تو انکے مابین انصاف سے فیصلہ کرو

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ

بیشک اللہ منصفوں کو دوست رکھتا ہے اور یہ تمکو حکم بنائے کیونکہ حالانکہ

عِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ

آنکے پاس تورت ہے جس میں حکم خدا موجود ہے پھر اس سے یہ روگردان

بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَىٰكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۖ إِنَّا أَنْزَلْنَا

ہوتے ہیں اور حقیقت میں یہ مومن ہی نہیں ہیں بیشک جنہ

التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ

تورت نازل کی جس میں ہدایت ہے اور نور ہے وہ نبی جو مطیع خدا تھے یہودوں کے فیصلے

الَّذِينَ اسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّيَّانِيُونَ وَالْأَجْمَارُ

اسکے مطابق کرتے رہے اور اسی طرح اللہ والے لوگ اور علماء

مَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ

جسکو اللہ کی کتاب کی حفاظت سپرد کی گئی تھی اور وہ انکے

Handwritten marginal notes on the left side of the page, providing commentary and explanations for the main text.

بجھڑائیں گے اور اگر فیصلہ کرو تو انکے مابین انصاف سے فیصلہ کرو

بجھڑائیں گے اور اگر فیصلہ کرو تو انکے مابین انصاف سے فیصلہ کرو

Handwritten marginal notes on the right side of the page, providing commentary and explanations for the main text.

اللہ نے نازل کیا ہے پس تم لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کو

شہداء فلا تخشوا الناس و احشون ولا تشکروا

مجاہد تھے پس تم لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کو

یا ایہی منّا قلیلاً و من لم یحکم بما انزل اللہ

(تھوڑی) تھوڑی قیمت پر تم بچو اور جو لوگ اُس کے مطابق حکم کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے

فاولئک هم الکفرون و کتبنا علیہم فیہا ان

دہی کا نذر ہیں اور تمہیں ان پر واجب کر دیا تھا کہ

النفس بالنفس و العین بالعين و الاذن بالاذن

جان کے بدلے جان کا اور آنکھ کے بدلے آنکھ کا اور ناک کے بدلے ناک کا

والاذن بالاذن و اللسن بالسن و الجمر و حصص

اور کان کے بدلے کان کا اور دانت کے بدلے دانت کا اور اسی طرح زخموں کا معاوضہ ہو

من تصدق به فهو کفارة له و من لم یحکم بما

بچھ جو سمان کر دے تو وہ اُس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیگا اور جو لوگ اُس کے مطابق حکم نہ کریں

انزل اللہ فاولئک هم الظالمون و وقفنا علی

اللہ نے نازل کیا ہے پس وہی لوگ ظالم ہیں اور انہیں انبیاء کے

انارہم بعیسی ابن مریم مصدقاً لما بین یدیه من

تقدم بقدم تھے عیسیٰ ابن مریم کو چلایا جو اپنے سے پہلے کی توریت کی تصدیق

التوراة و آتینہ الی جمیل فیہ ہدی و نور و مصدقاً

کرتے تھے اور انکو تھے اجمیل عنایت کی جس میں ہدایت (بھی) ہے اور نور (بھی) اور وہ

لما بین یدیه من التوراة و ہدی و مؤعظة

اُسے سے پہلے کی توریت کی تصدیق کرنے والی ہے اور پرہیزگاروں کے لئے ہدایت اور

للتقین و لیحکم اہل الی جمیل بما انزل اللہ فیہ

نصیحت ہے اور لازم ہے کہ اہل اجمیل اسی کے مطابق حکم کریں جو اللہ نے اجمیل میں نازل کیا ہے

قیامت کے دن ہر ایک کو اس کا اعمال کا حساب ہوگا اور اللہ جانتا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے اور انہیں انبیاء کے

بقرہ

ظالموں کے لئے ہے اور اللہ جانتا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے اور انہیں انبیاء کے

Handwritten notes at the top of the page, including the number 182 in a circle and other illegible scribbles.

ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۝ أَلَمْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ إِذْ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ غَيْرُ مُبْدِئِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمَنْ يَبْدؤهاُ فَاصْبِرُوا لِمَا نَدَّبَكُمْ بِهَا وَاصْبِرُوا بَلَغًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ سُبُلًا مِّنَ الْأَرْضِ تَجْرُونَ ۝ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُم يُنصَرُونَ ۝ إِنَّمَا جَعَلُوا آلِهَتَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ عُشْرَ آيَاتِ اللَّهِ فَاعْتَدُوا لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا ۝ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْقُرْآنَ آيَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَن يَقُولُوا إِذْ تُبْعَثُونَ إِنَّا كَائِدُونَ كَائِدَاتِكُمْ إِن نَّصَرْنَا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ فَيُدبَّرُونَ ۝ إِنَّمَا نَحْنُ عِبَادٌ مُّطِيعُونَ ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ أَن يَقُولُوا إِذْ تُبْعَثُونَ إِنَّا كَائِدُونَ كَائِدَاتِكُمْ إِن نَّصَرْنَا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ فَيُدبَّرُونَ ۝ إِنَّمَا نَحْنُ عِبَادٌ مُّطِيعُونَ ۝

Vertical handwritten notes on the right side of the page, providing commentary on the verses.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ

اسے ایمان لانے والو جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائیگا (تو خدا کا جو نعمان میں)

سَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى

خدا عزت پر ایسے لوگوں کو لایگا جو وہ دوست رکھتا اور اسکو وہ دوست رکھتے ہوں ان کے لئے

الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكُفْرِينَ زِيحًا هُدًى فِي

دوستوں میں (دور) کافروں کے لئے سخت راہ خدا میں جاو

سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ أَوْمَةً كَأُمِّ ذَكِّ فُضِّلَ اللَّهُ

کرتے ہیں اور کسی طامت کو نہ والے کی طامت سے نہیں ڈرتے یہ فضل خدا ہے

يُؤْتِيهِ مِنْ نَشَاءٍ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○ إِنَّمَا

جو کچھ چاہے عطا فرمائے اور خدا ہے تعالیٰ صاحبِ رحمت و علم ہے سو اگلے میں ہے

وَلَيْكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ

کے حکم بخارا اللہ ہے اور اسکا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں

يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

تاز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنْ

اور جو اللہ کو اور اس کے رسول کو دوست رکھتا (وہ گروہ خدا میں داخل ہے) اور گروہ خدا

حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ○ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ہمیشہ غالب رہیں گے اے ایمان لانے والو

لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا آدِينَكُمْ هُرُوفًا وَعِبَادًا مِنَ

جس لوگوں نے تمہارے دین کو نہیں سمجھا اور کھلونا بنایا اور اللہ

الَّذِينَ آؤُوا الْكُتُبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ

جو ان میں سے ہیں جو تم سے پہلے کتاب دی تھی انکو اور کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ

بہت سے حدیثیں لکھی ہیں جو ان آیات کے تفسیر میں آئی ہیں۔ مثلاً: "وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنْ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ" کے بارے میں روایت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست رکھے، وہ اللہ کے ساتھ ہوگا اور کافروں کو شکست دے گا۔

یہاں پر لکھا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ہیں، وہ جیت جائیں گے۔ اور جو اللہ کے خلاف ہیں، وہ ہار جائیں گے۔

یہاں پر لکھا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ہیں، وہ جیت جائیں گے۔ اور جو اللہ کے خلاف ہیں، وہ ہار جائیں گے۔

یہاں پر لکھا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ ہیں، وہ جیت جائیں گے۔ اور جو اللہ کے خلاف ہیں، وہ ہار جائیں گے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى

اور اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو اور جسوقت تم نازک کے لئے بلاتے ہو

الصَّلَاةِ اتَّخِذُوا هَآهِنًا وَأَوْعِبَاءَ ذَلِكِ بِأَنفُسِكُمْ

اُسکی بھی وہ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں یہ اسوجہ سے ہے کہ وہ

لَا يَعْقِلُونَ ۝ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا

جو قوت لوگ ہیں تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب کیا تم اس سبب ہم سے نفرت کرتے ہو

إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن

کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اسہر جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور اسہر جو کچھ ہم سے پہلے

قَبْلُ ۝ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ۝ قُلْ هَلْ أَنْبَأُكُمْ بِشَيْءٍ

نازل کیا گیا حالانکہ تم میں سے اکثر بدکار ہیں تم کہہ دو کیا میں تمکو اُنسے واقف کر دوں

مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَ

جسکی جزا خدا کی طرف سے اُنکو اُس سے بدتر ملی خیر خدا نے لعنت کی اور

غَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ

غضب نازل کیا اور اُن میں سے بعض کو بندر بنا دیا اور بعض کو سوار

وَعِبَدَ الطَّاغُوتِ ۝ أُولَٰئِكَ شَرُّ مَكَانًا ۝ وَأَضَلُّ

اور وہ طاغوت کو پوجنے والے اُنکا ٹھکانا بہت ہی بُرا ہے اور وہ راہ راست

عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝ وَإِذَا لَجَأُوا وَكُمُ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ

سے بہت ہی بھگتے ہوئے ہیں اور جسوقت وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے

دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُوَ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۝ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

حالانکہ وہ کفر کے ساتھ آتے ہیں اور کفر ہی کے ساتھ نکل جاتے ہیں اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ

كَانُوا يُكْفِرُونَ ۝ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ

اُس سے خوب واقف ہے اور تم اُن میں سے بہت سوں کو اس حال پر پاؤ گے کہ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوا هَآهِنًا وَأَوْعِبَاءَ ذَلِكِ بِأَنفُسِكُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ ۝ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ۝ قُلْ هَلْ أَنْبَأُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعِبَدَ الطَّاغُوتِ ۝ أُولَٰئِكَ شَرُّ مَكَانًا ۝ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝ وَإِذَا لَجَأُوا وَكُمُ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُوَ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۝ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يُكْفِرُونَ ۝ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ

مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوا هَآهِنًا وَأَوْعِبَاءَ ذَلِكِ بِأَنفُسِكُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ ۝ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ۝ قُلْ هَلْ أَنْبَأُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعِبَدَ الطَّاغُوتِ ۝ أُولَٰئِكَ شَرُّ مَكَانًا ۝ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝ وَإِذَا لَجَأُوا وَكُمُ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُوَ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۝ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يُكْفِرُونَ ۝ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ

فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّمْتِ ط لَيْسَ

گناہ۔ زیادتی اور حرام خوری پر دوڑ پڑتے ہیں بیشک بہت ہی بُرا ہی

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ

جو کچھ وہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں منع کرتے اللہ والے لوگ

وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشَّمْتِ ط

اور علماء اُنکو جھوٹی بات کہنے سے اور حرام خوری سے

لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لِلَّهِ

یقیناً بہت بری ہی جو کچھ وہ کرتے ہیں اور یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ کا ہاتھ

مَغْلُولَةٌ ط غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا إِمَّا قَالُوا مِثْلَ

بندھا ہوا ہے اُنہیں کے ہاتھ بندھ جائیں اور اُنپر اُنکے اس قول کے سبب سے لعنت بھی ہو بلکہ

يَدِهِ مَبْسُوطَاتٍ يَنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۝ وَلِيَزِيدَنَّ

اُسکے تُو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں جس طرح چاہتا ہو عطا کرتا ہو اور جو کچھ تمہارے

كثِيرٌ اِقْتَنَمَ مِمَّا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط طغیاناً و

رب کے پاس سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے یہ انہیں سے بہت سونگی سرکشی اور کفر کو ضرور

كُفْرًا ۝ وَالْقِيَابَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى

بُردا دینا اور بیچنے اُنکے مابین قیامت تک کے لئے بغض و عداوت

يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارَ الْحَرْبِ ط طفاها الله

ڈال دی جب لڑائی کی آگ بھڑکانیے اللہ اُسکو بجھا دیتا

وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۝ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اللہ فساد کرنے والوں کو

الْمُفْسِدِينَ ۝ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا

دوست نہیں رکھتا اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے

Handwritten notes at the top of the page, including phrases like 'لا يحجب الله' and 'المائدة'.

Vertical handwritten notes on the left margin, providing commentary on the verses.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لِلَّهِ

كثِيرٌ اِقْتَنَمَ

Handwritten notes at the bottom of the page, including phrases like 'المائدة' and 'لا يحجب الله'.

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the number 188 in a circle.

وَاتَّقُوا الْكُفْرَ تَأْكُفْرًا عَنْ سِيئاتِهِمْ وَلَا دُخْلَهُمْ

اور سستی ہو جائے تو ہم انکی بدیوں سے درگزر نہ کرتے اور انکو نعت والی

جَنَّتِ النَّعِيمَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمَا قَامَا التَّوْرَةَ

جنتوں میں داخل کرتے اور اگر وہ تورت کو اور

وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَا كَلُومًا

انجیل کو اور جو کچھ انکے رب کی جانب سے انکے پاس نازل ہو چکا اسکو قائم رکھتے نہ وہ

مَنْ فَوْقَهُمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ

آسمان کا بھی رزق کھاتے اور زمین کا بھی انہیں سے ایک گروہ تو

مُقْتَصِدَةٌ ۝ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ۝

سیانہ روہی اور انہیں سے بہت سے بہت ہی بد عمل ہیں

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۝

اے رسول جو کچھ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے (علی کے بارے میں) نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو

إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۝ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ

اور اگر ایسا نہ کیا تو گویا تمہنے اپنی رسالت ہی نہ پہنچائی اور اللہ آدمیوں کے شر سے

مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

تمکو محفوظ رکھتا ہے جبکہ اللہ منکر لوگوں کی رہبری نہیں فرماتا

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا

تم کہدو کہ اے اہل کتاب جبکہ تم تورت کو اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب

التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ

کی طرف سے پھر نازل کیا گیا اسکو قائم نہ رکھو تم کسا دین پر نہیں ہو (اور کلا)

رَبِّكُمْ ۝ وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ ان لوگوں میں سے بہت سوں کی

Extensive handwritten marginal notes on the right side of the page, including a large 'لَا يَحِبُّ' written vertically.

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

Handwritten marginal notes at the very bottom of the page.

وَحَسْبُ الْوَيْعِ كَاتِبِي مِنْ جَنَابِ لَامِ جِزْمَادِقِ طَبِيعِ السَّلَامِ فِي هَذِهِ آيَةِ كَيْ تَقْسِرُ فِيهِ تَقْدِيرُ كَيْ جَبَتْ جَبَابُ رَسُولِ مَدْرَعِي لَمْ تَطِيبْ لَمْ

مِنْ رَيْكَ طَغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ

رکشی اور کفر کو بڑھادے گا پس کافر لوگوں کے حال پر کچھ

الْكَافِرِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

افسوس نہ کرو بیشک جو ایمان لائے ہیں (وہ) اور جو یہودی ہو گئے (وہ)

وَالضَّالُّونَ وَالنَّصْرَى مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

اور لاذہب اور نصرانی جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان

الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

لا بچا اور نیک عمل کرچکا نہ اُن پر کوئی خوف طاری ہوگا

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ

اور نہ وہ بچے اٹھائیں گے یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے

بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا قُلْنَا

مسیح یا اور اُن کی طرف بہت سے رسول بھیجے جب

جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا

انکے پاس کوئی رسول ایسا کم لیکر آیا جسے اُنکا جی نہ چاہتا تھا تو اُنھوں میں کسی گروہ کی

كَذَّبُوا وَفِرُّوْا يُقَاتِلُونَ ۝ وَحَسِبُوا أَنَّ الْآ

تکذیب کی اور کسی گروہ کو قتل کیا اور گمان اُنھوں نے یہ کیا کہ اس سے

تَكُونُ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ

کوئی مصیبت نہ آئیگی پس وہ اندھے اور بہرے ہو گئے پھر اللہ نے اُنکی توبہ

عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ

توبل کر لی پھر اُن میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے

وَاللَّهُ بِصِدْقِهِمْ عَلِيمٌ ۝ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ

اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ اُسے دیکھتا تھا بیشک وہ لوگ کافر ہو گئے جنھوں نے

آن لوگوں میں سرور تھے تو ان لوگوں کو یہ گمان تھا کہ کوئی آرزو نشہ منوی جب آنحضرت کا انتقال ہو گیا تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر جب جناب امیر المؤمنین علیہ السلام خلافت ظاہری پر فائز ہوئے تو خدا نے ان لوگوں کی

سنگ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَ لَهُ إِلَّا بِرَحْمَتِهِ رَبِّنَا أَلْحَمَّ لِلَّهِ الْعَظِيمِ

وَقَالَ اللَّهُ لَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ وَأُولَئِكَ نَدْعُ إِلَى التَّوْبَةِ وَيُنذِرُ الْغَافِلِينَ

وَقَالَ اللَّهُ لَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ وَأُولَئِكَ نَدْعُ إِلَى التَّوْبَةِ وَيُنذِرُ الْغَافِلِينَ

قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ

الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ عِبُدُ اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ

رَبُّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

أَنْصَارٍ ۝ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ

ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ

لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ

كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ أَفَلَا

يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ


إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِيهِ

وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِيهِ

وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِيهِ

وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِيهِ



وقوله

وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِيهِ

وَأُمَّةٌ صَدِيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ

اور انکی والدہ صدیقہ ہیں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے

أَنْظُرْ كَيْفَ نَبِّئُكَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنْتَ

خود کرو کہ ہم انکے لئے نشانیاں کیسی دکھائیں گے پھر خود کرو کہ تم

يُؤْفَكُونَ ۚ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

بٹکے چلے جاتے ہیں کہو کیا تم خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو

مَا لَكُمْ لَكُمْ ضَرًّا أَوْ لَنْفَعًا وَاللَّهُ هُوَ

جو تم کو فائدہ دے گا اور نہین ہوں حالانکہ اللہ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا

سننے والا اور جاننے والا ہو کہو ای اہل کتاب تم

فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ

حق کو چھوڑ کر اپنے دین میں غلطی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو

قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا

جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہت سوں کو گمراہ کیا اور راہ

عَنْ سَوَاءٍ السَّبِيلِ ۚ لَعْنَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا

راست سے دور جاڑے بنی اسرائیل میں سے جو کافر ہو گئے

مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى

بنی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی

ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا

لعنت کی لگتی اس لئے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی

يَعْتَدُونَ ۚ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ

کھیا کرتے تھے جو بدی وہ کرتے تھے اس سے

Vertical marginal text on the left side of the page, containing various religious and historical commentary.

تفسیر

Large block of handwritten text at the bottom of the page, likely a continuation of the commentary or a separate section.

مَنْ كَفَرُوا فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ كَرِي

وہ باز نہ آتے تھے ضرور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ بہت ہی بُرا تھا ان میں سے

كثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ

بہت سے لوگوں کو تم کافروں کا بار بستے دیکھو گے جو بائیں

مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا لَمْ يَكْفُرُوا

انکے نفسوں نے انکے سامنے پیش کی ہیں وہ ضرور بُری ہیں کہ خدا ان سے ناراض ہوا

وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ۝ وَلَوْ كَانُوا

اور عذاب میں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے اور اگر وہ

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا نَزَّلْنَا بِهِ

اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہوتے

مَا اتَّخَذُوا مِنْهُمْ أَهْلًا وَلَا حِلًّا لَبِئْسَ مَا اتَّخَذُوا

تو انکو یار نہ بنائے دیکھیں انہیں سے بہت سے

فِئْتَانٍ يَاحِدَانِ ۝ لِيَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً

بدکار ہیں مومنوں کا سب سے زیادہ دشمن

لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا

تہم یہود اور مشرکوں کو پاؤ گے

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْهُمْ أَهْلًا لَبِئْسَ مَا اتَّخَذُوا

اور ان میں سے مومنوں کا زیادہ دوست ان لوگوں کو پاؤ گے جو

قَالُوا إِنَّا نَصْرِيُّوهُمُ وَمَا كُنَّا بِمُؤْمِنِينَ

یہ کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں اسکی وجہ سے جو کہ انہیں سے بعض علماء ہیں

وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ ۝

اور بعض درویش ہیں اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے

مَنْ كَفَرُوا فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ كَرِي
كثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ
مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا لَمْ يَكْفُرُوا
وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ۝ وَلَوْ كَانُوا
يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا نَزَّلْنَا بِهِ
مَا اتَّخَذُوا مِنْهُمْ أَهْلًا وَلَا حِلًّا لَبِئْسَ مَا اتَّخَذُوا
فِئْتَانٍ يَاحِدَانِ ۝ لِيَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً
لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْهُمْ أَهْلًا لَبِئْسَ مَا اتَّخَذُوا
قَالُوا إِنَّا نَصْرِيُّوهُمُ وَمَا كُنَّا بِمُؤْمِنِينَ
وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ ۝

لَبِئْسَ

اس قول کے بارے میں آیات میں مذکور ہے کہ جو لوگ کفر سے توبہ نہ کریں وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔